

# نوجوان افراد کی موسم گرما کی مطالعے کی ایکٹیویٹی شیٹ

مصروف تعلیمی سال کے بعد آرام کریں اور ان تجاویز کے ساتھ موسم گرما کے مطالعے میں آسانی سے داخل ہوں۔ ہمارا موسم گرما کا مطالعے کا پروگرام لچکدار ہے—آپ خود فیصلہ کریں کہ کس طرح حصہ لینا چاہتے ہیں۔ مطالعے اور دیگر سرگرمیوں کا امتزاج آزمائیں۔



موسم گرما  
کی پڑھائی  
Lectura  
de verano  
Summer  
Reading

- لائبریری کے موسم گرما کے رضاکار کے ایونٹ میں شرکت کر کے نئے لوگوں سے ملیں اور فرق پیدا کریں۔ مزید جانیں [skokielibrary.info/about/volunteering](http://skokielibrary.info/about/volunteering)
- ٹین روم کا دورہ کریں اور موسم گرما کے مطالعے کے ڈسپلینز دیکھیں۔
- ٹین سروسز کے لائبریرین سے کسی کتاب یا فلم کی تجویز مانگیں—ہمیں مدد کرنا پسند ہے
- آرام دہ جگہ تلاش کریں، ٹائمر لگائیں، اور ۲۰ منٹس تک پڑھیں۔
- بچپن کی کوئی پسندیدہ تصویری کتاب دوبارہ پڑھیں۔ اس کے بعد کوئی پرانی پسندیدہ چیپٹر بُک پڑھیں۔
- ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، ایک آڈیو بُک منتخب کریں، اور زیب تن ہوتے ہوئے Libby اور دن کے لیے تیار ہوتے ہوئے سنیں۔ یاد رکھیں—آڈیو بُک سننا بھی مطالعہ کے زمرے میں آتا ہے
- ہماری لائبریری کی ویب سائٹ پر نوجوانوں کے لیے کتابوں کی تجاویز کی فہرستیں دیکھیں۔
- پرانے انداز میں اپنا جرنل شروع کریں اور اپنی موسم گرما کی یادیں قلمبند کریں۔ ان جگہوں اور سرگرمیوں کی فہرست بنائیں جنہیں آپ دیکھنا اور کرنا چاہتے ہیں۔